

سَلَامٌ عَلٰی آلِ يَس.

سلام ہو اولاد پیغمبر ﷺ پر

Peace be upon (the) progeny of Yaseen.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا دَاعِيَ اللَّهِ وَرَبَّانِي آيَاتِهِ

آپ پر سلام ہو اے خدا کے داعی اور اس کے کلام کے نگہبان

Peace be upon you, O the caller of Allah and place of manifestation of His signs.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَابَ اللَّهِ وَدَيَانَ دِينِهِ

سلام ہو آپ پر اے خدا کے باب اور اس کے دین کی حفاظت کرنے والے

Peace be upon you, O the door of Allah and the devout one of His religion.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ اللَّهِ وَنَاصِرَ حَقِّهِ

آپ پر سلام ہو اے خدا کے نائب اور حق کے مددگار

Peace be upon you, O the vicegerent of Allah and the helper of His truth.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حُجَّةَ اللَّهِ وَدَلِيلَ إِرَادَتِهِ

آپ پر سلام ہو اے خدا کی حجت اور اسکے ارادے کے مظہر

Peace be upon you, O the proof of Allah and the Guide of His intention.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا تَالِي كِتَابِ اللَّهِ وَتَرْجُمَانَهُ

سلام ہو آپ پر اے قرآن کے قاری اور اس کی تشریح کرنے والے

Peace be upon you, O the reciter of Allah's book and its interpreter.

السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي آنَاءِ لَيْلِكَ وَأَطْرَافِ نَهَارِكَ

آپ پر سلام ہو رات کے اوقات میں اور دن کی ہر گھڑی میں

Peace be upon you in your night and in your day.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَقِيَّةَ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ

آپ پر سلام ہو اے خدا کی زمین میں اس کے نمائندہ

Peace be upon you, O the remnant of Allah on His earth.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مِيثَاقَ اللَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ وَوَكَّدَهُ

آپ پر سلام ہو اے خدا کے وہ عہد جو اس نے باندھا اور پکا کیا

Peace be upon you, O the covenant of Allah, which He took it and He fastened it.

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا وَعْدَ اللَّهِ الَّذِي ضَمِنَهُ

آپ پر سلام ہو اے خدا کے وعدہ جس کا وہ ضامن ہے

Peace be upon you, O the promise of Allah which He guaranteed it.

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْعَلَمُ الْمَنْصُوبُ

آپ پر سلام ہو کہ آپ ہیں گاڑا ہوا علم،

Peace by upon you, O the manifested flag

وَالْعِلْمُ الْمَضْبُوبُ وَالْعَوْتُ وَالرَّحْمَةُ الْوَاسِعَةُ

ہیں سپرد شدہ دانش، داد رس کشادہ تر رحمت

and the one who is filled with knowledge and the help and the far-reaching mercy

وَعَدًا غَيْرَ مَكْذُوبٍ

اور وہ وعدہ ہیں جو جھوٹا نہیں

a promise which is not a lie.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقُومُ

آپ پر سلام ہو جب آپ قیام کریں گے

Peace be upon you while you are standing

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَقْعُدُ

آپ پر سلام ہو جب منتظر بیٹھے ہیں
Peace be upon you while you are sitting.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَتَقْرَأُ وَتُبَيِّنُ

آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھیں اور تفسیر کریں
Peace be upon you when you are reading and explaining

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَصَلِّي وَتَقْنُتُ

آپ پر سلام ہو جب آپ نماز گزاریں اور قنوت پڑھیں
Peace be upon you when you are praying and supplicating.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَرْكَعُ وَتَسْجُدُ

آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع اور سجدہ کرتے ہیں
Peace be upon you when you are bowing and prostrating.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُهَلِّلُ وَتُكَبِّرُ

آپ پر سلام ہو جب آپ ذکر الہی کریں
Peace be upon you when you are saying "There is no God except Allah' and (when) you are saying 'Allah is greater (than what He is described).

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تَحْمَدُ وَتَسْتَغْفِرُ

آپ پر سلام ہو جب حمد و استغفار کریں
Peace be upon you when you are praising (Allah) and seeking forgiveness.

السَّلَامُ عَلَيْكَ حِينَ تُصْبِحُ وَتُمْسِي

آپ پر سلام ہو جب آپ صبح اور شام کریں اور تسبیح بجا لائیں
Peace be upon you when you enter the morning and the evening.

السَّلَامُ عَلَيْكَ فِي اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

آپ پر سلام ہو رات میں جب وہ چھا جائے
Peace be upon you in the night when it envelops

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

اور دن میں جب روشن ہو جائے
and the day when it becomes manifest.

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْإِمَامُ الْمَأْمُونُ

آپ پر سلام ہو اے محفوظ امام
Peace be upon you, O the leader, the protected one.

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَقْدَّمُ الْمَأْمُونُ

آپ پر سلام ہو جس کے آنے کی آرزو ہے
Peace be upon you, O the prior hoped one.

السَّلَامُ عَلَيْكَ بِجَوَامِعِ السَّلَامِ

آپ پر سلام ہو ہر طبقہ کی طرف سے سلام،
Peace be upon you by the collections of the salutations.

أَشْهَدُكَ يَا مَوْلَايَ

میں آپ کو گواہ قرار دیتا ہوں اے میرے آقا
I call you as a witness, O my Master,

أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں
certainly I testify that there is no god except Allah,

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

وہ یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں
He is alone, there is no partner with Him.

وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اور یہ کہ حضرت محمد ﷺ اسکے بندے اور رسول ہیں
And indeed I testify that Mohammad is His servant & His Apostle;

لَا حَبِيبَ إِلَّا هُوَ وَأَهْلُهُ

سوائے انکے کوئی حبیب نہیں اور ان کے اہلبیت کے
There is no beloved except him and his progeny.

وَأَشْهَدُكَ يَا مَوْلَايَ

آپ کو گواہ بناتا ہوں اے میرے آقا
And I call you as a witness, O my Master

أَنَّ عَلِيًّا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ حُجَّتُهُ

اس پر کہ علیؑ امیر المؤمنین اور اس کی حجت ہیں
Certainly Ali, the commander of the believers, is His proof.

وَالْحَسَنَ حُجَّتُهُ وَالْحُسَيْنَ حُجَّتُهُ

حسنؑ اس کی حجت ہیں حسینؑ اس کی حجت ہیں
And Hasan is His proof. And Husayn is His proof.

وَعَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ حُجَّتُهُ

اور علی بن الحسینؑ اس کی حجت ہیں
And Ali, son of Husayn is His proof.

وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ

اور محمد بن علیؑ اس کی حجت ہیں
And Muhammad, son of Ali is His proof..

وَجَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ

اور جعفر بن محمدؑ اس کی حجت ہیں
And Ja'far, son of Mohammad is His proof.

وَمُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ حُجَّتُهُ

اور موسیٰ بن جعفرؑ اس کی حجت ہیں
And Moosa, son of Ja'far is His proof.

وَعَلِيَّ بْنَ مُوسَى حُجَّتُهُ

اور علی بن موسیٰؑ اس کی حجت ہیں
And Ali, son of Moosa is His proof.

وَمُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ

محمد بن علیؑ اس کی حجت ہیں
And Muhammad, son of Ali is His proof.

وَعَلِيَّ بْنَ مُحَمَّدٍ حُجَّتُهُ

علی بن محمدؑ اس کی حجت ہیں
And Ali, son of Mohammad is His proof.

وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ حُجَّتُهُ

حسن بن علیؑ اس کی حجت ہیں
And Hasan, son of Ali is His proof.

وَأَشْهَدُ أَنَّكَ حُجَّةُ اللَّهِ أَنْتُمْ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ

اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ خدا کی حجت ہیں آپ ہی ہیں اول و آخر
And I testify that indeed you are the proof of Allah. All of
you, the first and the last.

وَأَنَّ رَجْعَتَكُمْ حَقٌّ لَا رَيْبَ فِيهَا

اور آپ کی رجعت حق ہے اس میں کوئی شک نہیں
And surely your return is a truth, there is no doubt in it.

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

اس دن ایمان لانا کچھ نفع نہ دیگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا

The day when belief of none will benefit himself who previously did not believe

أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا

یا ایمان کے تحت نیکی کے کام نہ کیے ہوں
or acquired a goodness through his belief.

وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌّ وَأَنَّ نَاكِرًا وَنَكِيرًا حَقٌّ

اور یقیناً موت حق ہے منکر و نکیر حق ہیں
And indeed death is a truth. And indeed Naakir and Nakeer is a truth.

وَأَشْهَدُ أَنَّ النَّشْرَ حَقٌّ وَالْبَعْثَ حَقٌّ

میں گواہی دیتا ہوں کہ قبر سے باہر آنا حق اور مردوں کا اٹھنا حق ہے،
And I testify that indeed the scattering (stage of Qiyamat) is a truth and the raising is a truth.

وَأَنَّ الصِّرَاطَ حَقٌّ وَالْمِرْصَادَ حَقٌّ

اور بے شک صراط سے گزرنا حق، اور نگرانی ہونا حق
And indeed the bridge (over hell) is a truth and the watching place is a truth.

وَالْمِيزَانَ حَقٌّ وَالْحَشْرَ حَقٌّ وَالْحِسَابَ حَقٌّ

اور اعمال کا تولا جانا حق ہے، حشر حق ہے، حساب کتاب حق ہے
And the balance is a truth and the gathering is a truth And the accounting (of deeds) is a truth

وَالْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ

جنت و جہنم حق ہے
and the Paradise and the hell is a truth.

وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ بِهِمَا حَقٌّ

ان کے بارے میں وعدہ اور وعید حق ہے
And the promise (of reward) and the threat (of the punishment) in them is a truth.

يَا مَوْلَايَ شَقِيٌّ مَنْ خَالَفَكَ

اے میرے سردار آپ کا مخالف بد بخت ہے
O my Master, one who opposes you is unlucky.

وَسَعِيدٌ مَنْ أَطَاعَكَ

اور آپ کا پیروکار نیک بخت ہے
And one who obeys you is lucky.

فَأَشْهَدُ عَلَى مَا أَشْهَدْتُكَ عَلَيْهِ

پس میں گواہی دیتا ہوں اسکی جسکی آپ نے گواہی دی
Then testify whatever I made you a witness upon it.

وَأَنَا وَوَلِيٌّ لَكَ بَرِيٌّ مِنْ عَدُوِّكَ

میں آپ کا حبدار ہوں اور آپ کے دشمن سے بیزار ہوں
I am verily an ally of you and denouncing your enemy.

فَالْحَقُّ مَا رَضِيتُمُوهُ

پس حق وہ ہے جسے آپ پسند کریں
So the truth is whatever you are satisfied with.

وَالْبَاطِلُ مَا أَسْخَطْتُمُوهُ

اور باطل وہ ہے جس سے آپ ناخوش ہوں
And the untrue is whatever you are angry with.

وَالْمَعْرُوفُ مَا أَمَرْتُمْ بِهِ

نیکی وہ ہے جس کا آپ حکم دیں
And the goodness is whatever you ordered.

وَالْمُنْكَرُ مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ

اور برائی وہ ہے جس سے آپ منع کریں
And the evil is whatever you have prohibited from.

فَنَفْسِي مُؤْمِنَةٌ بِاللَّهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

پس میرا دل ایمان رکھتا ہے خدا پر جو یگانہ ہے اسکا کوئی شریک نہیں ہے
So I am a believer in Allah, He alone, there is no partner with Him.

وَبِرَسُولِهِ وَبِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

اور اسکے رسول ﷺ پر اور امیر المومنین پر
And (I am a believer) in His Apostle and in the commander of the believers.

وَبِكُمْ يَا مَوْلَايَ أَوْلَايَ أَوْلَايَ وَأَخِيرِكُمْ

اور آپ پر اے میرے آقا ایمان رکھتا ہوں اسی طرح آپ کے پہلے اور آخری پر
And in you O my Master, the first among you and the last among you.

وَنُصْرَتِي مُعَدَّةٌ لَكُمْ وَمَوَدَّتِي خَالِصَةٌ لَكُمْ

اور میری نصرت آپ کے لیے حاضر ہے میری دوستی آپ کے لیے خالص ہے
And my help is intended for you And my love is purely for you.

آمِينَ آمِينَ

قبول فرما، قبول فرما۔

Amen! Amen ! (Accept! Accept!)

دعا بعد از زیارت آل یس

اس زیارت کے بعد یہ دعا پڑھ:

SUPPLICATION FOLLOWING THIS FORM OF ZIYARAH

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

اے معبود میں سوال کرتا ہوں تجھ سے کہ محمد ﷺ پر رحمت فرما
O Allah, I beseech You to send blessings upon Muhammad English Mp3

نَبِيِّ رَحْمَتِكَ وَكَلِمَةِ نُورِكَ

اپنے نبی جو رحمت و برکت والے اور تیرا نورانی کلمہ ہے
the Prophet of Your mercy and the Word of Your Light,

وَأَنْ تَمْلَأَ قَلْبِي نُورَ الْيَقِينِ وَصَدْرِي نُورَ الْإِيمَانِ

اور یہ کہ بھر دے میرے دل کو نور یقین اور سینے کو نور ایمان سے
and to fill in my heart with the illumination of certitude, my chest with the illumination of faith,

وَفِكْرِي نُورَ النِّيَّاتِ وَعَزْمِي نُورَ الْعِلْمِ

اور میرے ذہن کو روشن نیتوں میں ارادے کو نور علم
my intellect with the illumination of honest intentions, my determination with the illumination of knowledge,

وَقُوَّتِي نُورَ الْعَمَلِ وَلِسَانِي نُورَ الصِّدْقِ

میری قوت کو نور عمل میری زبان کو نور صداقت
my strength with the illumination of work, my tongue with the illumination of honesty,

وَدِينِي نُورَ الْبَصَائِرِ مِنْ عِنْدِكَ

اور میرے دین کو اپنی طرف سے بصیرتوں کے نور سے پر کر دے
my religion with the illumination of clear evidence from You,

وَبَصْرِي نُورَ الضِّيَاءِ وَسَمْعِي نُورَ الْحِكْمَةِ

میری آنکھ کو نور ضیائی سے میرے کان کو نور دانش
my sight with the illumination of brightness, my hearing with the illumination of wisdom,

وَمَوَدَّتِي نُورَ الْمُوَالَاةِ لِمُحَمَّدٍ وَآلِهِ

اور میری دوستی کو محمد و آل مجد کی محبت کے نور سے بھر دے
and my faculty of love with the illumination of sincere
loyalty to Muhammad and his Household,

عَلَيْهِمُ السَّلَامُ

ان پر تیری رحمت ہو
peace be upon them,

حَتَّى أَلْقَاكَ وَقَدْ وَفَيْتُ بِعَهْدِكَ وَمِيثَاقِكَ

حتی کہ تجھ سے ملاقات کروں جبکہ تیرے عہد و پیمان کو پورا کیا ہو
so that I, when I meet You, will have fulfilled the pledge
and covenant that I made with You

فَتُغَشِّيَنِي رَحْمَتِكَ يَا وَلِيَّ يَا حَمِيدٌ

پس تیری رحمت مجھے گھیر لے اے ولی اے تعریف والے
and then Your mercy will encompass me. O Protector! O
Worthy of all praise!

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

اے معبود درود و رحمت فرما محمد مہدی (عج) پر
O Allah, bless Muhammad (al-Mahdī)

حُجَّتِكَ فِي أَرْضِكَ وَخَلِيفَتِكَ فِي بِلَادِكَ

جو تیری زمین میں تیری حجت، تیرے شہروں میں تیرے خلیفہ
Your argument in Your land, Your viceroy in Your countries,

وَالدَّاعِي إِلَى سَبِيلِكَ وَالْقَائِمِ بِقِسْطِكَ

تیرے راستے کی طرف بلائے والے، تیری عدالت پر قائم رہنے والے،
the caller to Your course, the establisher of Your justice,

وَالثَّائِرِ بِأَمْرِكَ وَوَلِيِّ الْمُؤْمِنِينَ وَبَوَارِ الْكَافِرِينَ

تیرے حکم سے بدلہ لینے والے، مومنوں کے ولی، کافروں کے لیے پیام موت،
the revolting by Your command, the authority of the
believers, the ruiner of the unbelievers,

وَمُجَلِّي الظُّلْمَةِ وَمُنِيرِ الْحَقِّ

تاریکی میں روشنی کرنے والے حق کو عیاں کرنے والے
the remover of the murk, the illuminator of the truth,

وَالنَّاطِقِ بِالْحِكْمَةِ وَالصِّدْقِ

حکمت و سچائی سے کلام کرنے والے
the speaker with wisdom and honesty,

وَكَلِمَتِكَ التَّامَّةِ فِي أَرْضِكَ

جو تیری زمین میں تیرا کلمہ کامل
the perfect Word of You in Your lands,

الْمُرْتَقِبِ الْخَائِفِ

وہ تیرے فرامین کے نگہبان اور تیرے جبروت سے خوف زدہ ہیں،
the vigilant and fearful,

وَالْوَلِيِّ النَّاصِحِ سَفِينَةِ النَّجَاةِ

خیر خواہ ولی، نجات دلانے والی کشتی،
the well-wishing saint, the ark of salvation,

وَعَلَمِ الْهُدَى وَنُورِ أَبْصَارِ الْوَرَى

ہدایت کے پرچم اور لوگوں کی آنکھوں کا نور ہیں
the sign of guidance, the light of the peoples' sights,

وَخَيْرٍ مَنْ تَقَمَّصَ وَأَرْتَدَى وَمُجَلِّي الْعَمَى

قمیص اور چادر پہننے والوں میں بہترین اور اندھوں کو آنکھیں دینے والے ہیں

the best of all those who put clothes on their bodies, and
the unweaver of blindness,

الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا

جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کریں گے
who will fill the lands with justice and equity

كَمَا مِلَّتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا

جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی
as it would be filled up with wrong and unfairness.

إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے
You verily have power over all things.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ وَلِيِّكَ

اے معبود رحمت نازل فرما اپنے ولی پر
O Allah, bless Your vicegerent

وَأَبْنِ أَوْلِيَايَكَ الَّذِينَ فَرَضْتَ طَاعَتَهُمْ

اور اپنے اولیا کے (نسل در نسل) فرزند پر جنکی اطاعت تو نے لازم فرمائی
and the son of Your vicegerents the obedience to whom
You have made incumbent upon us

وَأَوْجِبْتَ حَقَّهُمْ

انکا حق واجب کیا
and the observance of the right of whom You have made
obligatory

وَأَذْهَبْتَ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهَّرْتَهُمْ تَطْهِيرًا

اور ان سے پلیدی کو دور کیا انہیں پاک رکھا اور خوب پاک۔
and from whom You have removed filth and whom You
have purified with thorough purifying.

اللَّهُمَّ أَنْصُرْهُ وَأَنْتَصِرْ بِهِ لِدِينِكَ

اے معبود امام زمان (عج) کی مدد کر انکے ذریعے اپنے دین کو غلبہ دے
O Allah, give him victory and make him the supporter of
Your religion

وَأَنْصُرْ بِهِ أَوْلِيَاءَكَ وَأَوْلِيَاءَهُ وَشِيعَتَهُ وَأَنْصَارَهُ

اور قوت دے انکے ذریعے اپنے دوستوں کو، اور انکے دوستوں کو اور شیعوں کو اور
مدد گاروں کو

and through him, give victory to Your and his adherents,
followers, and backers.

وَأَجْعَلْنَا مِنْهُمْ

اور ہمیں ان میں سے قرار دے
Include us with them.

اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنْ شَرِّ كُلِّ بَاغٍ وَطَاغٍ

اے معبود بچائے رکھ ان کو ہر باغی اور سرکش کے شر سے
O Allah, protect him against the evil of every transgressor
and tyrant

وَمِنْ شَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ

اور اپنی مخلوقات کے شر سے
and against the evils of all Your creatures.

وَأَحْفَظْهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

انکو محفوظ رکھ انکے آگے سے انکے پیچھے سے
Guard him from ahead of him, behind him,

وَعَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ

انکے دائیں سے اور انکے بائیں سے

his right side, and his left side.

وَأَحْرُسُهُ وَأَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يُوْصَلَ إِلَيْهِ بِسُوءٍ

انکی نگہبانی کر انکو بچائے رکھ سے کہ انہیں کوئی اذیت پہنچے
Watch him and defend him against anything that may cause evil to him.

وَأَحْفَظْ فِيهِ رَسُولَكَ وَآلَ رَسُولِكَ

انکی حفاظت کر کے اپنے رسول ﷺ اور انکی آل کی حفاظت کر
Save through him Your Messenger and the family of Your Messenger.

وَأُظْهِرْ بِهِ الْعَدْلَ وَأَيِّدْهُ بِالنَّصْرِ

ان امام آخر کے ذریعے عدل کو ظاہر کر اور نصرت دے کر انکو قوی بنا
Manifest justice through him. Aid him with victory.

وَأَنْصُرْ نَاصِرِيهِ وَأَخْذُلْ خَاذِلِيهِ

ان کے ناصروں کی مدد فرما انکو چھوڑ دے جو انکو چھوڑ گئے
Help his backers. Frustrate those who intend to disappoint him.

وَأَقْصِمِ قَاصِمِيهِ وَأَقْصِمِ بِهِ جَبَابِرَةَ الْكُفْرِ

انکو کمزور کرنیوالوں کی کمر توڑ دے اور انکے ہاتھوں کفر کے سرداروں کو زیر کر
Terminate those who intend to eradicate him. And, through him, terminate the tyrants of unbelief,

وَأَقْتُلْ بِهِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَجَمِيعَ الْمُلْحِدِينَ

اور قتل کرا دے انکی تلوار سے کافروں منافقوں اور سارے بے دینوں کو
kill the disbelievers, the hypocrites, and all atheists,

حَيْثُ كَانُوا مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا

وہ جہاں جہاں ہیں زمین کے مشرقوں اور اسکے مغربوں میں
wherever they are; in the east or the west of the earth

بَرَّهَا وَبَحْرَهَا

میدانوں اور سمندروں میں
on the lands or in the oceans,

وَأَمْلَأْ بِهِ الْأَرْضَ عَدْلًا وَأُظْهِرْ بِهِ دِينَ نَبِيِّكَ

ان کے ذریعے زمین کو عدل سے بھر دے اور اپنے نبی کے دین کو غالب کر دے
and, through him, fill in the earth with justice, manifest the religion of Your Prophet,

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اے معبود درود و رحمت فرما محمد مہدی (عج) پر
blessings and peace of You be upon him and his Household,

وَأَجْعَلْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَنْصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ

اور قرار دے مجھے اے معبود انکے مددگاروں میں سے اور انکے ساتھیوں میں سے
make me, O Allah, of his supporters, helpers,

وَأَتْبَاعِهِ وَشِيعَتِهِ

ان کے پیروکاروں میں سے اور ان کے شیعوں میں سے
followers, and adherents;

وَأَرِنِي فِي آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ مَا يَأْمُلُونَ

اور آشکار فرما آل محمد ﷺ کے بارے میں جسکی وہ تمنا رکھتے ہیں
allow me to see the hopes of the family of Muhammad, peace be upon them, come true,

وَفِي عَدُوِّهِمْ مَا يَحْذَرُونَ

اور انکے دشمنوں میں جس سے وہ دور رہتے ہیں میرے لیے آشکار فرما
and the hazards of their enemies come true.

إِلَهَ الْحَقِّ آمِينَ

اے سچے معبود ایسا ہی ہوا

O God of Truth, respond.

يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

اے صاحب جلال و بزرگی

O Lord of Glory and Honor!

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔

O most merciful of those who show mercy!



وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ۔

اور محمدؐ اور انکی تمام آلؑ پر اللہ رحمت فرمائے۔

and (please do) bless Muhammad and the Household of Muhammad (all of them)

مؤسسة تهذيب يرجى قَرَأَةَ سورة الفاتحة إلى التماس سورة فاتحه برائے

"ابو ظفر ظفر حیاتی" ابن "مجد حیاتی بخش"

Please recite Sura-al-Fateha for

Abu Zafar Zafar Hayati Son of Mohammad Hayat Buksh